



سوال

برے خواب آنا اور ان کا نقصان پہنچانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر برا خواب آجائے اور ڈر جائیں تو کیا کریں۔ کیا برے خواب نقصان پہنچاتے ہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

برا خواب دیکھنے کی صورت میں اٹھ کر اپنے بائیں طرف تین بار تھوک کر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔

یہ اور اس طرح کی دوسری غلط قسم کی خوابیں شیطان کی جانب سے ہیں، اگر مسلمان اس طرح کی خواب دیکھے تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں جانب تین بار تھوک تھو کر تھو کر تھو کر شیطان اور جو کچھ دیکھا ہے اس کے شر سے پناہ مانگے، پھر اپنی دوسری کروٹ پر ہو کر سو جائے تو یہ اسے کوئی ضرر نہیں پہنچائیگی، اور یہ خواب کسی شخص کو نہ بتائے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"نیک اور صالح خواب اللہ کی جانب سے ہیں، اور برے خواب شیطان کی جانب سے، چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بار تھو تھو کے اور شیطان اور اس کے شر سے تین بار پناہ مانگے تو وہ اسے کوئی ضرر نہیں دے گی"

صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر (3049)۔

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ

فتویٰ کمیٹی